

کان میں دودھ ڈالنے سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی

مجیب: ابو الفیضان مولانا عرفان احمد عطاری

فتویٰ نمبر: WAT-3183

تاریخ اجراء: 13 ربیع الثانی 1446ھ / 17 اکتوبر 2024ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوتِ اسلامی)

سوال

میری نانی اماں نے میرے ماموں کے بیٹے کے کان میں، اس کی بیماری کی وجہ سے دودھ ڈالا تھا، اور اسی ماموں کی ایک دوسری بیٹی ہے، شرعی رہنمائی فرمائیں کہ میرا نکاح اس ماموں کی بیٹی سے جائز ہے یا نہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں ماموں کی وہ بیٹی پھر رشتے میں میری خالہ بن گئی؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

کان میں دودھ ڈالنے سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی لہذا حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کی جو عمر ہے (ڈھائی برس) اگر بچے کے کان میں اس مدت کے اندر اندر بھی دودھ ڈالا گیا ہو تو اس کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، پس اگر حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو تو صورتِ مذکورہ میں آپ کا نکاح آپ کے ماموں کی بیٹی کے ساتھ جائز ہے۔ چنانچہ الجوهرة النيرة میں ہے ”وإن أقطر في أذنيه۔۔۔ لم يحرم“ ترجمہ: اور اگر بچے کے کان میں دودھ کے قطرے ڈالے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ (الجوهرة النيرة، کتاب الرضاع، ج 2، ص 27، المطبعة الخيرية)

یونہی فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”ولا یثبت بالاقطار فی الأذن۔۔۔ وإن وصل إلى الجوف والدماع“ ترجمہ: کان میں دودھ کے قطرے پڑکانے سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوگی اگرچہ دودھ کے قطرے جوف و دماغ میں پہنچ جائیں۔ (فتاویٰ ہندیہ، کتاب الرضاع، ج 1، ص 344، دار الفکر، بیروت)

بہار شریعت میں ہے: عورت کا دودھ اگر حقنہ سے (پیچھے کے مقام سے بطور علاج) اندر پہنچایا گیا یا کان میں پڑکایا گیا یا پیشاب کے مقام سے پہنچایا گیا یا پیٹ یا دماغ میں زخم تھا اس میں ڈالا کہ اندر پہنچ گیا تو ان صورتوں میں رضاع نہیں۔ (بہار شریعت، ج 2، حصہ 7، ص 36، مکتبۃ المدینہ)

دررالحکام شرح غرر الاحکام میں ہے ”لأن المراد وصول اللبن إلى جوفه من فمه أو أنفه لا بالإقطار في الأذن والاحليل۔ الخ“ ترجمہ: (کیونکہ حرمت رضاعت میں بچے کو دودھ پلانے سے) مراد اس کے جوف میں منہ یاناک کے ذریعے دودھ پہنچانا ہے، نہ کہ کان یا پیشاب کے مقام سے قطرے ٹپکا کر۔ (دررالحکام شرح غرر الاحکام، ج 1، ص 355، دار إحياء الكتب العربية)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net